

بچوں کے لئے بائبل  
تحائف

یسوع چہ سدر  
طوفان ہماراوان



تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: Janie Forest  
Alastair Paterson

کے مطابق: Ruth Klassen

ترجمہ کردہ: [www.christian-translation.com](http://www.christian-translation.com)

کی طرف سے تیار: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

©2023 Bible for Children, Inc.

لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،  
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔





پسوع تہ تسندی شاگرد  
اسی ناو منز ییلہ اکھ  
بود واو طوفان وتلتہ او۔  
یم زنتہ قمچہ والی والی  
گیلی (کیرت) ہند  
سدرکی ملر و زنايو اکھ  
طوفان ہیو۔ امہ قسیمکی  
طوفان چہ جہازن پاش  
پاش کران تہ پانس  
منزے سارسے  
ژومراوان۔



أمی طوفانن ترہراوی سیاری شاگرد۔ ملریو وول ناو نال تہ برکہ  
یہ ابہ سیتی۔ مگر یسوع اوس پانہ اتہ وفانس منر شانڈ  
دیتہ شونگتہ۔


شاگردو وُزنوو  
یسوع۔ ودان  
روان۔ ہے گرو  
اسی چہ ختم  
گژہن والی۔



"توہی کیاز خوف زدہ۔ ہے توہی کمہ پڑھِ وَاَلی۔" یسوعن پڑوڑھ  
یمن شاگردن۔ او پتہ دیوت یسوعن واوس حکم ہمنہ باپتہ تہ  
دکادک کرن واجنن لہرن ونن قرار کرنہ باپتہ۔




تہ واو ہمیو۔۔۔ سُدِر بیوٹھ لوتی آرامہ سان قرارس۔ شاگرد گے  
یہ ونان ونان ششدر روزتھ۔ "یہ کس سنا چھ یمی سُنڈ واو  
طوفان تہ سُدِر تام مانان چھ۔"




کینہہ کال گڑھتہ اوس یسوع پس یتھے ہیو اوریار بیہ  
دوبہ۔ پانڑھ سائس پیٹھی لوکھ اسی امس پتہ پتہ  
سیکلیس تام واتی متی۔ خدایہ سند یڑھنہ پوشہ  
نووامی اکس لوکٹس بچہ سند غذا  
سارنی لکن۔ وونی اوس  
شام ووتمت یسوع بن  
گڈی یم ساری  
گر کن۔



شاگردن تام پيو نيون - يسوع هن بهناوي يم ناو منتر - گليلي  
(کنرت) سدرس تار دته اپارمس طرفس سوزنه باپته -







ییلہ امی ساری اپور  
سوزی، یسوع گو  
بالس کن کنے زون  
عبادت کرنہ باپتہ۔  
ییلہ شام ووت سہ  
اوس اتہ بلکل کنے۔





پياري اسي جهيلس منر شاگرد  
اكي واو طوفانن رڻمٽي - طوفان  
اوس نه ٽمن اپور ترنه ديوان - نه  
اوس ٽمن به واو طوفان پته  
ديوان ٽلنه - حالانڪه تم  
اسي گانڻه وادن  
اتھ لمان - شاگرد  
اسي نه بلڪل  
مانان مگر ٽمن  
اسي اکھ بد  
حارانگي  
وچھني -





صبحس ترے تہ شرے  
بجھے درمیان وچھ  
شاگردو تھ واوس منز  
چھلہ چھانگر سُدرس منز  
کینہہ تیوتھ یمی تم سخ  
خوف زد گری۔ "یہ چھ  
بوت" تمو دژ کریکہ۔  
مگر یہ اوس یسوع تہند  
خداوند تہ گرو تمن کن  
یوان، آبه پیٹھی پکان۔



"روزيو خوش تہ خار سان"  
يسوع بن دتکھ آلو۔ "یہ  
چھس بہ کھوڑیو مہ۔"  
پطرسن وونس "خدا وند  
یودوے یہ توہی چھو، انیو  
مے پننہ حکمہ ابہ پیٹھی  
پانس نیش۔" يسوع بن  
وونس "وولہ" پطرسن تروو  
بد ہمتہ سان کھورہ ناو منز  
نیبر آہس پیٹھ تہ لوگن يسوع  
ہس کن پکن۔





مگر یتھے امی واو  
گتہ گیور کران وچہ۔  
پٹر گابریو تہ ہیوتن  
دبُن۔ تمی دژ کریکہ  
"خداوند مرے بچایو۔"



يسوع بن زيٲهروو ؤلى ؤلى پُنن اٲه تہ گرن  
پٲرس تہپہ۔ "ہے! ژمے کياز راؤمے پڑہ۔ ژمے  
کياز کورٲتہ شک" تمی پروژہس۔ ینہ پٲر تہ  
خداوند يسوع ناو منر ژامے واو ہمیو۔



ناو منڙ ڀيم ته اُسي آءِ بروڻه  
ڪن ته ڪرڪه يسوع سنڙ پوزا  
يه ونان ز "پزي چهو توڻي  
خدائيه سنڌي اولاد۔"



یسوع چھ سدر طوفان ہماراوان

خدا کے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

متی 8، متی 14، مارک 4، لیوک 8

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"

زبور 119:130





ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:  
پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

